



## ایچ بی ایل پی ایس ایل 6 اپ ڈیٹ

ابوظہبی، یکم جون 2021ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ اور چھ فرنچائز مالکان نے آج بروز منگل کو ایک ورچوئل اجلاس میں شرکت کی، جہاں فرنچائز مالکان کو ایچ بی ایل پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز سے متعلق تمام امور پر اپ ڈیٹ کیا گیا۔

اجلاس کی کارروائی مندرجہ ذیل ہے:

- قومی کرکٹ ٹیم اب 23 کی بجائے 25 جون کو دورہ انگلینڈ پر روانہ ہوگی
- ایچ بی ایل پی ایس ایل 6 اب 20 کی بجائے 24 جون کو ختم ہوگی
- 25 جون کو انگلینڈ روانگی کا مطلب ہے کہ اگر ٹورنامنٹ 7 جون کو شروع ہوتا ہے تو ٹورنامنٹ میں صرف تین ڈبل ہیڈرز شامل ہوں گے
- فرنچائز کو بھارت سے تعلق رکھنے والے پرائیکشن کریو میں شامل 16 افراد سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام افراد اب دبئی میں انسولیشن مکمل کر رہے ہیں، ان افراد کو گزشتہ ہفتے ابوظہبی میں داخلے کی اجازت ملی تھی
- این سی ای ایم اے بھارت سے تعلق رکھنے والے پروڈکشن کریو کو 5 جون سے ابوظہبی میں کام کرنے کی اجازت دینے سے متعلق فیصلہ کل بروز بدھ کی دوپہر تک کر لے گی، اجازت ملی تو ایونٹ کا آغاز 7 جون سے ہوسکتا ہے
- پی سی بی ابوظہبی کی حکومت سے رابطے میں رہے گا
- فرنچائز مالکان نے موجودہ حالات میں درپیش چیلنجز کے باوجود سخت محنت کرنے پر پی سی بی کی کاوش کو سراہا ہے
- فرنچائز مالکان ایچ بی ایل پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز کا انعقاد یو اے ای میں کروانے کے خواہشمند ہیں
- سرفراز احمد سمیت مزید 6 افراد ابوظہبی پہنچ چکے ہیں
- ملتان سلطانز نے اوبیڈ مکائے کی جگہ مزار ابانی کو اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے
- پاکستان سے بذریعہ چارٹرڈ فلائیٹ ابوظہبی پہنچنے والے تمام افراد کا قرنطینہ

- بدھ کی دوپہر کو مکمل ہوجائے گا
- اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں بدھ کی رات کو شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ کا آغاز کریں گی

#### Partners



www.psl-t20.com ● PCB Headquarters  
@thePSLT20 ● Gaddafi Stadium,  
@thePSL ● Ferozpur Road, Lahore  
PakistanSuperLeague ● Pakistan, PO Box 54000  
@thePSL ● T: +92 42 3571 7231-4